

When two words are joined together to give a new meaning, they make a compound word **مرکب لفظ**. Compound words are formed by different methods.

1. Two nouns together : گل رخ - جان نثار - برق رفتار - ماه رُو
2. Adjective + Noun : نوجوان - تھی دست - بلند پرواز - خوش بخت
3. Noun + Imperative : گل فروش - کارساز - مرثیہ خوان - نکتہ چین
مشکل کشا - جہان آفرین - راہ گیر - تخت نشین
4. Compound words are also formed by adding prefix (**سابقہ**) or suffix (**لاحقہ**) to a word.

مرکب الفاظ سابقہ یا لاحقہ لگانے سے بھی بنتے ہیں۔

Study the following words:

ان مرکب الفاظ کا مطالعہ کیجیے:

لاحقہ (Suffixes)	سابقہ (Prefixes)
گل + دان - گلدان	کم + زور - کم زور
دولت + کدہ - دولت کدہ	بی + ہمت - بی ہمت
عید + گاہ - عید گاہ	نا + مراد - نامراد

Here کم , بی , نا are prefixes and دان , کدہ and گاہ are suffixes.

Similarly the following composite words are made by adding prefixes or suffixes.

کم سن ، بی وقوف ، سیرگاہ / تماشا گاہ ، غم کدہ ، ناشاد ، غمگین

تشدید (Tashdeed)

The word مرکب is spelt as Murakkab with the letter ک spelt twice. The mark or the symbol (ّ) over letter ک means that ک is to be spelt twice. This symbol is called تشدید (Tashdeed).

Study the common words given below:

عزت (Izzat) ، ہمت (Himmat) ، ذرہ (Zarreh) ، درہ (Darreh) ،
ذلت (Zillat) ، قلت (Qillat) ، اُمت (Ummat)۔

Form Compound words from the following suffix or prefix:

درج ذیل سے مرکب الفاظ بنائیے:

(۱) خوب	(۲) خود	(۳) نو	(۴) دل
(۵) خوش	(۶) گین	(۷) نویس	(۸) زار

مرکب توصیفی Adjectival Construction

When in a compound construction, some attribute or adjective of a noun is shown, the construction is called **مرکب توصیفی** (Adjectival Construction).

مرکب الفاظ کی ترکیب میں جب کسی اسم کے ساتھ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔

Example: red rose	(Gul-e-surkh)	گلِ سرخ
big tree	(Darakht-e-buzurg)	درختِ بزرگ
pale face	(Chehra-e-zard)	چہرہٴ زرد
poor cat	(Gurba-e-miskeen)	گرۂ مسکین
fresh air	(Hawâ-e-taza)	ہوای تازہ
loud voice	(Sadâ-e-buland)	صدای بلند
beautiful face	(Roo-e-zeeba)	روی زیبا
bad habit	(Khoo-e-bad)	خوی بد

In the above examples, سرخ , بزرگ , زرد , مسکین , تازہ , بلند , زیبا , بد are adjectives (صفت) and they qualify the nouns preceeding them. These nouns are called موصوف.

مرکب اضافی Possessive Construction

A possessive construction is a group of words which shows possessing of a noun. In a possessive construction, one noun has a zer (—) with it. This noun is called the Governing Noun. i.e. مضاف .

Example: برادرِ احمد (Ahmed's brother)

(1) Here برادر is مضاف and the other noun احمد is called مضاف الیہ. Zer (—) is called کسرۂ اضافی.

بعض ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اضافت ظاہر کرتا ہے۔ پہلے لفظ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے۔ اسے مضاف کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ ترکیب برادرِ احمد میں برادر مضاف ہے اور احمد مضاف الیہ ہے۔

More examples : Evening of Avadh شامِ اودھ

Morning of Benaras صبحِ بنارس

Water of Zamzam

آبِ زمزم

Prayer of Zohr

نمازِ ظہر

- (2) In the construction چاہِ زمزم (well of Zamzam) the letter 'ہ' is pronounced fully therefore zer is used with it. However, in the construction خانۂ احمد , the letter 'ہ' of مضاف i.e. خانہ is not pronounced fully. Hence, instead of zer, hamzâ (ء) is put over it.

جب 'ہ' پوری طرح ادا ہوتا ہے تو زیر لگتا ہے جیسے چاہِ زمزم۔ جب 'ہ' پوری طرح ادا نہیں ہوتا تو زیر کی بجائے

(ء) استعمال ہوتا ہے جیسے خانۂ احمد

More examples: (with Hamza)

(without Hamza)

سایۂ دیوار

شاہِ مدینہ

دانۂ گندم

راہِ خدا

نالۂ دل

ماہِ محرم

- (3) In the construction صدای بلبِل and بوی گل , the words مضاف respectively end with the vowels 'و' (wao) and 'ا' (alif), hence instead of zer, the letter 'ی' is used after مضاف.

چونکہ صدا اور بو کا آخری حرف 'ا' اور 'و' ہے اس لیے ان مضاف کے آخر میں 'ی' لگاتے ہیں۔

Other examples: کوی دوست , سوی دار , فضای باغ , جوی شیر

پرسش

Write the meaning in your mother tongue or English of the following :

اپنی مادری زبان یا انگریزی میں درج ذیل کے معنی لکھیے :

The cap of Ahmed or Ahmed's cap

(۱) کلاہِ احمد

(۳) گربۂ سفید

(۲) مینارِ بلند

(۵) ابرِ سیاہ

(۴) گلِ نرگس

(۷) خوی خوب

(۶) طفلِ زیرک

(۹) کلامِ غالب

(۸) بابِ مدرسہ

(۱۱) بوی دوست

(۱۰) مالِ مفت